



سوال

(208) کسی شہر میں چاردن کی اقامت کی نیت پر قصر یا پوری نماز پڑھے کا حکم

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جب کوئی شخص نیت کرے کہ وہ کسی شہر میں چاردن سے قیام کرے گا تو کیا وہ پوری نماز پڑھے یا قصر نماز پڑھے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

قیام یا سفر کے موضوع کے ساتھ چاردن کا کوئی تعلق نہیں۔ قیام اور سفر وہ معاملہ ہے جس کا تعلق مکلف انسان کی نیت اور وضع کے ساتھ ہے، مثلاً: وہ شخص جو کسی شہر اور ملک میں تجارت کی غرض سے جاتا ہے اور اس کا اندازہ ہے کہ اس کی تجارت کے لیے وہاں پر چاردن کا قیام درکار ہے تو یہ آدمی اس کی وجہ سے مقيم شمار نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کی نیت اور ارادہ میں بدستور سفر موجود ہے۔ (علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ)

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

عورتوں کے لیے صرف

صفحہ نمبر 202

محدث فتویٰ